



III nivå 3  
ଓଡ଼ିଆ  
Samrina Sana  
Meghan Judge  
Lindiwe Matsikiza



ମୁଖ୍ୟ ଲାଗ୍

Denne fortellingen kommer fra African Storybook (africanstorybook.org) og er videreført midlert av Barnebøker for Norge (barnebøker.no), som tilbyr barnebøker på mange språk som snakkes i Norge.

Overrett av: Samrina Sana  
Illustrert av: Meghan Judge  
Skrevet av: Lindiwe Matsikiza


ମୁଖ୍ୟ ଲାଗ୍

barnebøker.no

# Barnebøker for Norge



https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no  
Navngivelse 4.0 Internasjonal Lisens.  
Dette verket er lisensiert under en Creative Commons



یہ ایک چھوٹی سی لڑکی تھی۔ جس نے دور فاصلے پر ایک  
پر اسرار چیز دیکھی۔

-  
۶۰

میخانه بخت و میخانه  
رها





شرماتے ہوئے لمیکن وہ بہادر لڑکی اُس عورت کے  
مقرب گئی۔ ہمیں اس سے اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ چھوٹی  
لڑکی کے لوگوں نے فہیلہ کیا۔ ہم اس سے اور اس  
کے بچے کو حفظ رکھنے گے۔



لدھاجپ اور اُس کی ماں ایک ساتھ رہنے والے اور زندہ رہنے  
کے لیے مختلف طریقے سیکھے۔ آہستہ آہستہ ان  
کے ارد گرد رہنے والے باقی گھر بھی ٹھیک ہو گئے۔

- תְּמִימָה כַּפֶּר בְּיִמְמָרְכָה, מֵתָה כְּבָשָׂר  
 כְּבָשָׂר כְּבָשָׂר, מֵתָה כְּבָשָׂר, עֲבָדָה  
 כְּבָשָׂר כְּבָשָׂר כְּבָשָׂר כְּבָשָׂר  
 כְּבָשָׂר כְּבָשָׂר כְּבָשָׂר כְּבָשָׂר

יְהוָה, כְּבָשָׂר כְּבָשָׂר, יְהוָה, כְּבָשָׂר  
 יְהוָה, כְּבָשָׂר כְּבָשָׂר, יְהוָה, כְּבָשָׂר





لیکن جب انہوں نے جچے کو دیکھا ہر کسی نے حیران ہو کر پیچھے کی طرف چھلانگ لگائی۔ ایک گدھا!

لہڑے کو آخر کار معلوم تھا کہ اب اُسے کیا کرنا ہے۔

-مَرْ : شَهْرِيُّونَ - كَلْمَنْ -  
 كَلْمَنْ - كَلْمَنْ - كَلْمَنْ : كَلْمَنْ - كَلْمَنْ -  
 كَلْمَنْ - كَلْمَنْ - كَلْمَنْ - كَلْمَنْ - كَلْمَنْ -  
 كَلْمَنْ - كَلْمَنْ - كَلْمَنْ - كَلْمَنْ - كَلْمَنْ - كَلْمَنْ

- كَلْمَنْ - كَلْمَنْ - كَلْمَنْ - كَلْمَنْ - كَلْمَنْ - كَلْمَنْ - كَلْمَنْ





اور اس طرح عورت نے خود پھر اکیلا پایا۔ وہ حیران تھی کہ وہ اس عجیب بچے کے ساتھ کیا کرے۔ وہ اس بات پر بھی حیران تھی کہ وہ اپنے ساتھ کیا کرے۔



بہت اوپر بادلوں کے درمیان وہ سو گئے۔ گدھ کو خواب آیا کہ اُس کی ماں بچمار ہے اور اُس سے بُلارہی ہے اور جب وہ جا گا۔۔۔

-اَنْتَمْ دِرْدِرْ دِرْ دِرْ شُجُّوكْ جُوكْ  
دِرْ دِرْ دِرْ دِرْ دِرْ دِرْ دِرْ دِرْ دِرْ



-دِرْ دِرْ دِرْ دِرْ  
دِرْ دِرْ دِرْ دِرْ دِرْ دِرْ دِرْ دِرْ دِرْ





اب اگر جچھوٹا رہتا تو ہر چیز مختلف ہوتی۔ لیکن گدھا جچھے سے بڑا ہوتا گیا حق کہ وہ اپنی ماں کی پیٹھ پر پرانہ آتا۔ اور باوجود اس کے کہ اس نے بہت کوشش کی لیکن وہ ایک انسان کی طرح برتاؤ نہ کر سکتا۔ اس کی ماں اکثر تھک جاتی اور تیگ آجائی۔ بعض اوقات وہ اس سے جاؤ رہوں والے کام کرواتی۔



لدھا اُس بوڑھے آدمی کے ساتھ رہنے پلا گیا جس نے اُس سے رہنے کے لیے کتنی طریقے سینکھا ہے۔ گدھا سہیا اور سینکھتا جس سے وہ بوڑھا آدمی جس سینکھتا۔ وہ ایک دوسرے کی مدد کر تے اور مل کر ہنستے۔

-يَلِكْ-  
كَرِيزْ! تَرَاهُ إِذْنَهُ كَمْبُوكَلْجِيَّةَ  
عِلْمَهُ! كَمْلَهُ كَمْلَهُ كَمْلَهُ  
كَمْلَهُ!



-فَتَهْلِكَهُ كَرَاهَةَ كَرَاهَةَ  
كَرَاهَةَ! كَرَاهَةَ كَرَاهَةَ كَرَاهَةَ  
كَرَاهَةَ، كَرَاهَةَ كَرَاهَةَ كَرَاهَةَ، كَرَاهَةَ  
كَرَاهَةَ، كَرَاهَةَ كَرَاهَةَ كَرَاهَةَ، كَرَاهَةَ





لہذا بہت شرمذہ تھا۔ اُس نے بھاگنا شروع کیا، جتنا تیز  
اور جتنا دور وہ بھاگ سکتا تھا۔



وقت کے ساتھ اُس نے بھاگنا بند کیا، رات ہو چکی  
تھی اور گدھا کھو گیا تھا۔ ہی ہا؟ وہ اندر ہیرے میں سرسرایا۔  
ہی ہا؟ آواز واپس گئی۔ وہ اکیلا تھا خود کو ایک گیند کی طرح  
کول کر کے وہ ایک گھری اور دردناک نیند میں سو گیا۔